mention the full qs statement for proper evaluation.

1

تاریخ:____

اسلام میں عورت کا مقام۔

اسلام نے عورت کو عزت، تحفظ اور حقوق دیے (معاشرتی، قانونی، معاشی اور روحانی) جنہوں نے عورت کی حیثیت کو دنیا کی تمام تہذیبوں میں ممتاز کر دیا۔ عورت کو مرد کے برابر تسلیم کیا گیا لیکن دونوں ~~میں کوئی فرق رکھا~~ کی ذمہ داریوں میں فرق رکھا تاکہ خاندان اور معاشرے میں توازن قائم رہے۔ پاکستان جیسے اسلامی جمہوری ملک میں عورت کے حقوق اسلام کے اصولوں کے مطابق آئین میں واضح طور پر درج کئے گئے ہیں۔ جہاں تک مغربی معاشرے کا تعلق ہے تو اس نے عورت پر برابری کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اس سے عورت کے مقام میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی

2019 میں برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں نیشنل ہیلتھ سروسز کے ایک سروے کے مطابق عورتوں سے یہ سوال کیا گیا کہ انہیں کوئی ایسا شریک حیات پارٹنر ملے جو ان کی تمام ضرورت کا نگہبان ہو تو 98٪ فیصد خواتین نے ایسے شریک حیات کو دوبارہ پسند کیا۔ یہ جواب مغرب و مشرق کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے کے معاشروں

تاریخ: ______

قدیم تہذیبوں میں عورت کا مقام

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اپنے سے پہلے موجود تمام تہذیبوں اور معاشروں سے بہتر مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اسلام سے پہلے عرب کی جاہلی تہذیب ہو یا ایرانی و رومی تہذیب ہو عورت کو کسی جگہ پر ایسا مقام و مرتبہ حاصل نہیں جیسا اسلام نے دیا۔ آئیے ہم اسلام سے پہلے کچھ قدیم تہذیبوں کا جائزہ لیتے ہیں۔

A) عرب کی تہذیب میں عورت کا مقام

اسلام سے پہلے عرب تہذیب میں عورت کا مقام بہت پست تھا۔ لڑکیوں کو پیدائش کے وقت ہی اکثر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ "بدنامی" اور "معاشی بوجھ" سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکے۔ قرآن مجید اس ظلم کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے

اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ (سورہ التکویر 9-8)

try to add the arabic of quranic ayats.

تاریخ: ______

عورت کو جائیداد یا وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا بلکہ عورت کو صرف خدمت اور غلامی کیلئے رکھا جاتا تھا۔ عورت کو اپنی شادی میں کوئی اختیار نہ تھا۔ مرد کسی بھی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر شادی کر سکتا تھا۔ مشہور ابن کثیر لکھتے ہیں

"جاہلیت کے دور میں ایک مرد جتنی چاہے عورتوں سے شادی کر سکتا تھا اور ان پر کوئی پابندی نہ تھی۔" (تفسیر ابن کثیر، سورہ النساء)

B) یونانی تہذیب میں عورت کا مقام!

اسلام سے پہلے یونانی تہذیب میں عورت کو مرد کی ملکیت، کم تر اور ناقص العقل سمجھا جاتا تھا مشہور یونانی فلسفی نے عورت کے بارے میں کہا

"عورت فطری طور پر کمتر ہے۔ اور وہ مرد کی خادم ہے۔ مرد حکمرانی کیلئے پیدا ہوا ہے اور عورت اطاعت کیلئے" Aristotal, Palitics, Book-I, Section 1254b)

یونانی فلسفی پلاٹو (Plato) نے اپنی کتاب (Republic) میں عورت کو مرد کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ~~جماعتی~~ جماعتی ضرورت کہا ہے

قدیم ہندوستان میں خواتین کی حالت ۱

قدیم ہندوستان
میں خواتین کی حالت کو انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا یوں بیان کرتا ہے " ہندوستان میں محکومیت بڑا اور اہم اصول ہوا کرتی تھی ۔ قانون کے مطابق عورتیں محکومی کی زندگی گزارتی تھیں ۔ وراثت صرف مردوں میں منتقل ہو سکتی تھی اور خواتین کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا ۔ ~~بیٹیوں~~

عورت کو شوہر کی خدمت گزار سمجھا جاتا تھا

شوہر کی موت کے بعد عورت کو "ستی" کی رسم کے تحت زندہ جلا دیا جاتا تھا

رومی تہذیب

روم کی قدیم تہذیب میں عورت کا مقام محدود رکھا گیا تھا اور قوانین اور سماجی روایات کے تحت عورت کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا اور اسے مرد کی ملکیت سمجھا جاتا تھا ۔ رومی عورت کو عموماً جائیداد رکھنے کا حق نہیں تھا ۔ اور وہ وراثت میں بھی مردوں پر انحصار کرتی تھیں ۔ بعض خوشحال خاندانوں کی عورتیں تجارت میں شامل ہو سکتی تھیں لیکن یہ مثالیں نایاب تھیں ۔

تاریخ: ________

اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام!

اسلامی معاشرے میں آغاز ہی سے عورت کو عزت دی گئی ہے۔ عورت ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں یا بیٹی کے روپ میں ہو۔ اسلام ہر حیثیت سے اس کو قدر و منزلت عطا کرتا ہے۔ آئیے ان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔

use specific and self explanatory headings.

عورت بحیثیت ماں!

اسلام میں ماں کو بلند درجہ عطا کیا ہے، اس حوالے سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے"

بخاری کی روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ خوشنودی کا باعث بنتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا **"نماز کا مقرر وقت پر ادا کرنا"** اور اس کے بعد کونسا عمل اللہ کو محبوب ہے تو آپ ﷺ فرمایا **"اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا"**

اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے"

"اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو"

(القرآن)

اگر بزمِ ہستی میں عورت نہ ہوتی
خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی

تاریخ: ____

عورت بحیثیت بیوی (زوجہ)

① اور اسی کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان طرف (مائل ہوکر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کردی (الروم 21)

② "اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کئے"

شادی ایک سماجی ضرورت ہے اور اس کا مقصد انسانی بقا کے ساتھ ساتھ روحانی بالیدگی اور جذباتی فلاح و تسکین حاصل کرنا ہیں اور اسی سلسلے میں ~~عورت~~ اسلام عورت کو بہت سے حقوق فراہم کرتا ہے جو کسی تہذیب نے آج تک فراہم نہیں کیئے۔

(1) اپنی مرضی سے شریک حیات کا انتخاب

اسلامی قوانین کے مطابق کسی بھی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف شادی کیلئے مجبور نہیں کیا جا سکتا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کسی بیوہ سے پوچھے بغیر شادی نہیں کرنی چاہئے اور کسی دوشیزہ کی بھی سے اس کی رضا مندی کے بغیر اور اس کی رضا مندی اس کی خاموشی ہے

تاریخ: ________

(۱) حق مہر شادی کا تحفہ!

باقی سارے حقوق کی فراہمی
کے علاوہ اسلام میں خواتین سے حق مہر کے
بارے میں خصوصی فرمان ہے کہ اس کو معاہدہ نکاح
میں اس طرح شامل کیا جائے تاکہ اس کی
ملکیت شوہر یا باپ کو منتقل نہ ہو سکے۔
اسلام میں حق مہر کا تصور ہے کیونکہ یہ عورت
کیلئے محبت و الفت کا تحفہ ہے۔

(۱) معاشی تحفظ کا حق

اسلام عورت کو معاشی تحفظ
کا حق بھی فراہم کرتا ہے اور یہ مرد پر لازم ہے
کہ وہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے جیسے
کھانا، لباس اور رہائش۔ قرآن مجید میں ارشاد
ہے

"الرجال قوامون علی النساء .. و بما انفقوا
من اموالھم"

یعنی مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ وہ
ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں (النساء: 36)

(۱) مہربانی اور حسن سلوک

شوہر کو بیوی کے ساتھ محبت اور
نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔
"تم میں ~~سے بہتر وہ ہے~~ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی
کے ساتھ اچھا سلوک کرے" ترمذی

طلاق/خلع کا حق!

اسلام نے عورت کو خلع کا حق بھی دیا ہے۔ عورت کے پاس اگر معقول وجہ ہو تو قاضی یا عدالت یہ حق عورت دے سکتی ہے

شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے میں مشکلات ہوں

وجوہات!

- جذباتی یا جسمانی بدسلوکی
- ناپسندیدگی کی بنیاد پر رشتہ نبھانے میں مشکل
- شوہر کا شرعی حق پورا نہ کرنا

"اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر اپنا رشتہ ختم کرے"

(سورہ البقرہ آیت 229)

بحیثیت بیٹی! اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا اور اس کی پرورش کو جنت کا ذریعہ دیا گیا نبی کریم ؐ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے (پھر انہوں نے اپنی دونوں انگلی کو جوڑ کر دکھایا) صحیح مسلم

بیٹی کے حقوق

- تعلیم و تربیت
- عزت اور احترام
- وراثت کا حق
- نکاح میں آزادی کا حق
- کفالت کا حق

سیاسی پہلو

اسلامی تعلیم میں عورتوں کو مردوں کے برابر سیاسی حقوق حاصل ہیں۔ اس میں سیاسی تقرری اور الیکشن کے حقوق شامل ہیں

پاکستان کے آئین کے مطابق عورتوں کے حقوق

⇐ پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 25 میں یہ بات موجود ہے کہ تمام شہری خواہ مرد ہوں یا عورت قانون کے سامنے برابر ہیں

⇐ آرٹیکل 37- میں عورتوں کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں

⇐ پاکستان میں عورتوں کے تحفظ کیلئے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت کام کی جگہ خواتین کو تحفظ دیا گیا ہے

⇐ خواتین کی پارلیمنٹ میں مخصوص نشستیں دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے حق کیلئے آواز بلند کر سکیں

⇐ اسلام کے مطابق وراثت کا حق دیا گیا ہے۔

⇐ عدالتوں میں خلع کیلئے کام کر رہی ہیں

تاریخ: ______

اقتصادی پہلو

اسلام نے عورت کو مکمل اقتصادی پہلو دیے ہیں جو کوئی اور مذہب فراہم نہیں کرتا تاکہ عورت سماجی اور مالی طور پر محفوظ اور بااختیار ہو۔ اسلامی تعلیمی کے مطابق عورت کو درج ذیل اقتصادی پہلو فراہم کیے ہیں



10

حضرت خدیجہؓ نبی کریم ﷺ کی پہلی زوجہ ایک کامیاب تاجر تھیں اور اسلامی تاریخ میں بہترین مثال ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے

end the answer with conclusion.